

August 26, 2022

To  
The Secretary, Listing Department  
**BSE Limited (SME),**  
Phiroze Jeejeebhoy Towers,  
Dalal Street, Fort,  
Mumbai-400 001

**Sub: Newspapers publication - Notice of the Annual General Meeting and Remote E-voting Information**

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 47 read with Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing herewith the newspaper cuttings of the Notice of the Annual General Meeting and Remote E-voting information published in the following newspapers on Thursday, August 25, 2022:

- i. Hindustan Times (English)
- ii. Hind Samachar (Urdu)

in connection with Annual General Meeting of the Company scheduled to be held on Friday, September 16, 2022 at 12.30 pm through Video Conferencing or Other Audio Visual Means.

We request you to take the above information on record.

Thanking You,


Yours faithfully,

**For Prevest Denpro Limited**


**Atul Modi**  
**Managing Director**

**DIN: 00788272**



**Growth is not just adopting new technologies. It's also adapting to new realities.**

**Growth is...On.**



**Think Ahead. Think Growth.**

Follow us:

- mint.live
- livemint
- live\_mint
- livemint
- livemint.com

**PUNJAB POLICE HOUSING CORPORATION LTD.**  
POLICE COMPLEX, PHASE-VII, SAS NAGAR  
TEL. NO. 4080111, 4080112 & FAX No. 4080107

**INVITATION OF BID (IFB)**

**SHORT E-TENDER NOTICE NO. 13/2022-23 DATED 22.08.2022**

Punjab Police Housing Corporation Limited, SAS Nagar invites online bids for different type of 02 nos. works at various places in Punjab:-

i)	Closing Date and Time	07.09.2022 Time 1100 Hrs.
----	-----------------------	---------------------------

For details log onto : [proc.punjab.gov.in](http://proc.punjab.gov.in)

Note: Any Corrigendum(s) to the Tender Notice shall be published on the above website only.

16494

CHAIRMAN-cum-MANAGING DIRECTOR

**PREVEST DENPRO LIMITED**

CIN: U85199JK1999PLC001969, EPIP Kartholi, Bari Brahmna, Samba, Jammu (J&K) -181133. India. Email: [info@prevestdenpro.com](mailto:info@prevestdenpro.com), Web: [www.prevestdenpro.com](http://www.prevestdenpro.com)

Notice is hereby given that 23rd Annual General Meeting (AGM) of the Members of PREVEST DENPRO LIMITED will be held on Friday, September 02, 2022 at 12.30 p.m. (IST) through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means ('OAVM') as set out in the Notice of the AGM in compliance with applicable provisions of the Companies Act, 2013 ('the Act') and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015 with General Circular numbers 14/2020, 17/2020, 20/2020 and 02/2021 dated April 8, 2020, April 13, 2020; May 5, 2020 and January 13, 2021 respectively issued by the Ministry of Corporate Affairs (Collectively referred to as 'MCA Circulars'), without the presence of the Members at the common venue.

In compliance with above MCA Circulars, and the SEBI Circulars dated May 12, 2020 and January 15, 2021, the Company has sent the Notice of the AGM along with the Annual Report 2020-21 on August 24, 2022, through electronic mode only to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company or Registrar & Transfer Agents and Depositories. The requirement of sending physical copies of the aforesaid documents have been dispensed with vide MCA and SEBI Circulars referred above.

The Annual Report 2021-22 of the Company, inter-alia, containing the Notice of the AGM is available on the website of the Company at [www.prevestdenpro.com](http://www.prevestdenpro.com) and on the websites of the Stock Exchanges viz [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com). A copy of the same is also available on the website of National Securities Depository Limited (NSDL) at [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com).

In compliance with Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, the Secretarial Standard on General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India and sub-clause 1 & 2 of Regulation 44 of the SEBI LODR Regulations, the Company is providing to its Members the facility of remote e-Voting before as well as during the AGM in respect of the businesses to be transacted at the AGM and for this purpose, the Company has engaged the services of NSDL for facilitating voting through electronic means.

The detailed instructions for remote e-Voting are given in the Notice of the AGM. Members are requested to note the following:

a. The remote e-Voting facility shall be available during the following period:

Commencement of e-Voting	From 9.00 a.m. (IST) on Tuesday, September 13, 2022
End of e-Voting	Up to 5.00 p.m. (IST) on Thursday, September 15, 2022

During this period, Members of the Company, holding shares either in physical form or dematerialized form, as on Friday, September 09, 2022 ('Cut-Off Date'), may cast their vote by remote e-Voting.

b. The voting rights of the Members shall be in proportion to their share of the paid-up equity share capital of the Company as on Friday, September 09, 2022 ('Cut-Off Date'). The facility of e-Voting system shall also be made available during the Meeting and the Members attending the Meeting, who have not already cast their vote by remote e-Voting shall be able to exercise their right during the Meeting. A person whose name is recorded in the Register of Members/Register of Beneficial Owners as on the Cut-Off Date only shall be entitled to avail the facility of remote e-Voting before and during the AGM.

c. Any person holding shares in physical form and non-individual shareholders who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after the email/dispatch of the Notice and holds shares as on the Cut-Off Date, may obtain the login-id and password for remote e-Voting by sending a request at [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) or may contact on toll free number 1800 1020 990/1800 224 430, as provided by NSDL. However, if you are already registered with NSDL for remote e-voting, then you can use your existing user ID and password for casting your vote. If you forgot your password, you can reset your password by using 'Forgot User Details/Password' or 'Physical User Reset Password' option available on [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) or call on toll free no. 1800 1020 990 and 1800 22 44 30. In case of Individual Shareholders holding securities in demat mode who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after sending of the Notice and holding shares as of the cut-off date i.e. Friday, September 09, 2022 may follow steps mentioned in the Notice of the AGM under 'Access to NSDL e-Voting system'.

A person who is not a Member as on the Cut-Off Date should treat the Notice of the AGM for information purposes only. The Members of the Company holding shares in physical/demat form and who have not registered/updated their e-mail addresses with the Company/Registrar & Transfer Agents (the Registrar)/Depository Participants (the DPS) are requested to send the following documents/information via e-mail to [cs@prevestdenpro.com](mailto:cs@prevestdenpro.com) in order to register/update their e-mail addresses and to obtain user id & password to cast their vote through remote e-voting at the AGM.

1. Name registered in the records of the Company
2. E-mail id and Mobile number
3. DPID-Client ID, Client Master Copy or Copy of Consolidated Account Statement (For Shares held in demat mode)
4. Scanned copy of the share certificate front and back (For Shares held in physical mode)
5. Self-attested scanned copy PAN and Aadhar.

Members may also send their queries relating to e-voting to Ms. Pallavi Mhatre, Manager, NSDL, 4th Floor, '1.1. Wing, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Panel, Mumbai -400013 at: E-mail id: [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in); Toll free No. 1800 1020 990/1800 224 430.

Members facing any technical issue in login before/during the AGM can contact NSDL helpdesk by sending a request at [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) or call at toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 4430. The Results declared along with the report of the Scrutinizer shall be placed on the website of the Company [www.prevestdenpro.com](http://www.prevestdenpro.com) and on the website of NSDL <https://www.evoting.nsdl.com> immediately after the declaration of result by the Chairman or a person authorized by him in writing. The results shall also be uploaded on the websites of stock exchanges [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com).

By Order of Board of Directors  
Prevest Denpro Limited  
Sd/-  
Atul Modi  
Managing Director

Date: 19 August, 2022  
Place: Jammu

**CHANDIGARH HOUSING BOARD**  
(A Chandigarh Administration Undertaking)  
8, JAN MARG, SECTOR 9-D, CHANDIGARH PH: 0172-4601826



**PUBLIC NOTICE**

Before Secretary, CHB Exercising the Powers of the Estate Officer, UT Chandigarh.

Subject:- Mutation / Transfer of Dwelling Unit No.862 (ground floor) of Cat-MIG(D) in Sector 41-A, Chandigarh on the basis of Transfer Deed in the name of Smt. Sudesh Rani W/o Late Sh. Lal Chand Chopra from the name of allottee/transferee Smt. Sudesh Rani W/o Late Sh. Lal Chand Chopra, Smt. Kamlesh Rani W/o Sh. Subhash Chander, D/o Late Sh. Lal Chand Chopra, Smt. Indu Bala W/o Sh. Ashok Kumar, D/o Late Sh. Lal Chand Chopra & Sh. Ramesh Kumar Chopra S/o Late Sh. Lal Chand Chopra.

(DAUGHTERS, SON TO MOTHER)

It is hereby notified for the information of the general public and all concerned that the Dwelling Unit No. 862 (Ground Floor), of Cat-MIG (D) Category in Sector 41-A, Chandigarh stands in the name of allottee/ transferee Smt. Sudesh Rani W/o Late Sh. Lal Chand Chopra, Smt. Kamlesh Rani W/o Sh. Subhash Chander, D/o Late Sh. Lal Chand Chopra, Smt. Indu Bala W/o Sh. Ashok Kumar, D/o Late Sh. Lal Chand Chopra & Sh. Ramesh Kumar Chopra S/o Late Sh. Lal Chand Chopra. It has been reported by Smt. Sudesh Rani W/o Late Sh. Lal Chand Chopra has applied for transfer of ownership rights in respect of said Dwelling unit on the basis of Transfer Deed in her name which was Executed and registered in office of Sub-Registrar Chandigarh on 17/08/2022.

If any body has any objection upon the mutation of the said property in favour of applicant, he/she/they may submit the objection in writing to the undersigned within 15 days of the publication of this notice, failing which, the ownership of the said dwelling unit shall be transferred in favour of above said claimant(s).

Secretary,  
Chandigarh Housing Board, Chandigarh

WEAR MASK, WASH YOUR HANDS, WATCH YOUR DISTANCE

**CHANDIGARH HOUSING BOARD**  
(A Chandigarh Administration Undertaking)  
8, JAN MARG, SECTOR 9-D, CHANDIGARH PH: 0172-4601827



**PUBLIC NOTICE**

It is hereby notified for the General Public that the following person(s) have applied for Permission for the Sale/Purchase of Dwelling Unit in their names under Regulation of the Chandigarh Housing Board (Allotment, Management and Sale of Tenements) Regulations 1979:-

Sr. No.	NAME OF THE PURCHASER Sh/Smt./MS	NAME OF THE SELLER Sh/Smt./MS	D.U. No.	CAT.	SECTOR
1.	Sh. Ashraya Gautam S/o Sh. Shiv Kumar Sharma	Smt. Mukhtiar Kaur W/o Late Sh. Jarnail Singh, Sh. Raminder Singh S/o Late Sh. Jarnail Singh, Smt. Parminder Kaur D/o Late Sh. Jarnail Singh and W/o Sh. Gursagar Singh, Smt. Inderjit Kaur D/o Late Sh. Jarnail Singh and W/o Sh. Karam Singh, Smt. Narinder Pal Kaur D/o Late Sh. Jarnail Singh and W/o Sh. Ranjit Singh & Smt. Gurdeep Kaur D/o Late Sh. Jarnail Singh and W/o Sh. Bhupinder Pal Singh	255-1	II	55 Chd

In case anybody has any objection for the Sale/Purchase in respect of above said dwelling Unit, he/she may submit the objection, if any, in writing within 15 days of the publication of this notice before the undersigned alongwith documentary evidence, if any.

Secretary,  
Chandigarh Housing Board, Chandigarh

WEAR MASK, WASH YOUR HANDS, WATCH YOUR DISTANCE



ساڈا پاؤلو: دیگر ادھیکاریوں کے ساتھ مینٹنگ میں حصہ لیتے وزیر خارجہ ایس جے شنکر

سماجبر اطلاعات کا استراٹ کرنا سنا ہے، جیسا کہ سماجبر سکیورٹی، خطرات اور مالیاتی نظام کی چلک کو مضبوط کرنے کیلئے طریقہ کار۔

بیان میں کہا گیا کہ دونوں ممالک نے سرحد پار مشترکہ سماجبر مالیاتی مشقیں کرنے پر بھی اتفاق کیا۔ پہلی مشق اس سال کے آخر میں متوقع ہے۔

دریں اثناء تین روز سے جاری بارش کا منفی اثر دیہی علاقوں میں بھی دیکھنے میں آیا جس کی وجہ سے کل دوپہر سیل پورہ گاؤں میں کچے مکان کی دیوار گر گئی جس کے باعث گھر میں کھانا پکانے والی خاتون طے تلے دب گئی۔ زخمی حالت میں اودے پور ریفر کیا گیا لیکن رات دیر گئے علاج کے دوران اس کی موت ہو گئی۔

پریوار اور دوستوں کی سٹیٹی  
اپنی شادی کی سالگرہ  
کی خوشخبری سبھی سے  
اشاعت قریبی کی جانتے کی۔  
urdu@thepunjabkesari.com  
7696696258  
نوٹ: میل میں نام، پتہ اور موبائل نمبر ضرور لکھیں

## اتل امبانی کو 420 کروڑ کی ٹیکس چوری کے الزام میں انکم ٹیکس محکمہ نے دیا نوٹس

اہتمام ہے۔ انکم ٹیکس ڈیپارٹمنٹ نے اتل امبانی کو جاری نوٹس میں انہیں 31 اگست تک جواب دینے کو کہا ہے۔ پی ٹی وی نے جب اس بارے میں اتل امبانی کے آفس سے رابطہ کیا تو کوئی رد عمل نہیں مل پایا۔ امبانی کے اوپر تخمینہ سال 2012-13 سے لے کر 2019-20 تک بددیش میں رکھی غیر اعلانیہ جائیداد پر ٹیکس کی چوری کرنے کا الزام

مئی 24 اگست (ان-ریلینس) گروپ کے چیئرمین اتل امبانی کے برے دن ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے ہیں اب اتل امبانی کے اوپر کالا دھن قانون کا ٹکٹ کس رہا ہے۔ انکم ٹیکس ڈیپارٹمنٹ نے اتل امبانی کیخلاف مقدمہ چلانے کی منظوری دینے کی مانگ کی ہے۔ انکم ٹیکس ڈیپارٹمنٹ نے یہ مانگ دو سو سو لاکھ کھاتوں میں 814 کروڑ روپے سے زیادہ کی غیر اعلانیہ جائیداد پر 420 کروڑ روپے کی ٹیکس چوری کو لے کر کی ہے۔

نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق انکم ٹیکس ڈیپارٹمنٹ نے الزام لگایا ہے کہ اتل امبانی نے جان بوجھ کر ٹیکس کی چوری کی ہے ڈیپارٹمنٹ کے مطابق امبانی نے سوچی سمجھی حکمت عملی کے تحت بددیشی بینک اکاؤنٹس میں جمع رقم کی جانکاری بھارتیہ ٹیکس اتھارٹی کو نہیں دی اس سلسلے میں اتل امبانی کو اگست ماہ کی شروعات میں وجہ بتاؤ نوٹس بھی جاری کیا گیا تھا۔

ڈیپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ اتل امبانی کیخلاف بلیک منی (ان ڈسکلوزڈ فارن انکم اینڈ اسٹینڈ اسٹینس) ایمپوزیشن آف ٹیکس ایکٹ 2015 کے سیکشن 51950 کے تحت مقدمہ چلایا جا سکتا ہے۔ جس میں جرمانہ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ 100 سال کی قید کی سزا کا

پاکستان نے غیر اعلانیہ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کیلئے عالمی امداد طلب کی


اسلام آباد 24 اگست (یو این آئی) پاکستان نے سیلاب سے متاثرہ لوگوں کی امداد اور بحالی تیز تازہ شدہ بنیادی ڈھانچے کی بحالی کے لیے عالمی برادری سے مالی امداد کی اپیل کی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ موجودہ ریلیف آپریشن میں 180 ارب روپے کی ضرورت ہے اور نقصانات کے ازالے اور متاثرین کی بحالی کے لئے سینکڑوں ارب روپے درکار ہیں۔

پاکستان میں جولائی سے اب تک کے بڑے سیلاب میں کم از کم 1830 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، ایسے حالات میں حکومت نے منگل کو سیلاب سے متاثرہ لوگوں کی امداد اور بحالی تیز تازہ شدہ انفراسٹرکچر کی بحالی کے لئے ایک بین الاقوامی اپیل شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔

## سٹاک مارکیٹ میں مسلسل دوسرے دن بھی تیزی



مبئی، 24 اگست (یو این آئی) غیر ملکی بازاروں میں گراؤ کے باوجود مقامی سطح پر ریٹکنگ، کپینٹل گڈس، ہنگامی، ٹیلی کام اور صنعتی سمیت 14 گروپوں میں ہونے والی خریداری کی بدولت آج سٹاک مارکیٹ میں مسلسل دوسرے دن بھی تیزی رہی۔ بی ایس ای کا تیس حصص کا حساس انڈیکس سینیکس 54.13 پوائنٹس بڑھ کر 59085.43 پوائنٹس اور نیشنل سٹاک ایکسچینج (این ایس ای) کا فیڈی 27.45 پوائنٹس بڑھ کر 17604.95 پوائنٹس پر پہنچ گیا۔ بی ایس ای کا ایک ڈی 0.80 فیصد بڑھ کر 24969.34 پوائنٹس اور سال کیپ 0.73 فیصد مضبوط ہو کر 28266.64 پوائنٹس پر پہنچ گیا۔ اس دوران بی ایس ای میں کل 3546 کمپنیوں کے حصص میں کاروبار ہوا، جن میں سے 2112 میں خرید، 1292 میں فروخت ہوئی، جبکہ 142 میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اسی طرح این ایس ای میں 26 کمپنیوں میں تیزی جبکہ بقیہ 24 میں گراؤ رہی۔



## آج کا راشی چل

125 اگست 2022 دن ویوار  
بھادوں کرشن کی تریوٹی (صبح 10.38 تک) اور بدیش تھی چوٹ  
سورج اودے کے وقت گھر کی پوزیشن

سورج	سنگھ	میں	بنہ	کنیا	میں	شنی	مکر	میں
چندرا	کرک	میں	گورو	مہین	میں	راہو	میکھو	میں
منگل	برہ	میں	شکر	کرک	میں	کیٹو	تلا	میں

بکرہ کی سمت 2079، بھادوں پرودھ 9، راشی برہمک سمت 1944، تاریخ 3 (بھادوں)، جبری سال 1444، مہینہ خرم، تاریخ 26، سورج اودے صبح 6.03 بجے، سورج است شام 6.56 بجے (چاندھر نام،) غلشر: کچھ (شام 4.16 تک) اور بعد میں غلشر اٹھایا۔ یوگ: دریان (رات 25-26) درمیانی رات 1.56 تک) اور بعد میں یوگ پردھ۔ چندرا: مکرگ راشی پر (پورا دن رات) شام 4.16 کے بعد نئے یوگ اٹھایا غلشر کی پوجا لگی۔ بھدرارہے کی (10.36) سے بے کر رات 11.32 تک)۔ دشا شول: دھن اور آگنئے دشا کیلئے۔ راہو کال بعد دوپہر ڈیڑھ سے تین بجے تک۔ پرہ، دوں اور تھورا۔ ماسک شورا تری پرہ۔ گیلش پاترا (جنوں کشیر) شروع

• چنڈت اسراروی مندر شال منڈل چوٹش ریسرچ سینٹر۔ 381، موسا سنگھ، چاندھر

**Aries** اگست 21 سے 31، چاند، بول، بول، بول

**Taurus** اگست 31 سے 31، بول، بول، بول، بول

**Cancer** اگست 31 سے 31، بول، بول، بول، بول

**Gemini** اگست 31 سے 31، بول، بول، بول، بول

**Virgo** اگست 31 سے 31، بول، بول، بول، بول

**Scorpio** اگست 31 سے 31، بول، بول، بول، بول

**Capricorn** اگست 31 سے 31، بول، بول، بول، بول

**Libra** اگست 31 سے 31، بول، بول، بول، بول

**Sagittarius** اگست 31 سے 31، بول، بول، بول، بول

**Aquarius** اگست 31 سے 31، بول، بول، بول، بول

**Pisces** اگست 31 سے 31، بول، بول، بول، بول

**PREVEST DENPRO LIMITED**  
CIN: U85199JK1999PLC001969, EPIP Kartholi, Bari Brahmana, Samba, Jammu (J&K)-181133, India. Email: info@prevestdenpro.com, Web : www.prevestdenpro.com

Notice is hereby given that 23<sup>rd</sup> Annual General Meeting (AGM) of the Members of PREVEST DENPRO LIMITED will be held on Friday, 16<sup>th</sup> September at 12:30 p.m. (IST) through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means ('OAVM') as set out in the Notice of the AGM in compliance with applicable provisions of the Companies Act, 2013 ('the Act') and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 with General Circular numbers 14/2020, 17/2020, 20/2020 and 02/2021 dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020 and January 13, 2021 respectively issued by the Ministry of Corporate Affairs (Collectively referred to as 'MCA Circulars'), without the presence of the Members at the common venue.

In compliance with above MCA Circulars, and the SEBI Circulars dated May 12, 2020 and January 15, 2021, the Company has sent the Notice of the AGM along with the Annual Report 2020-21 on August 24, 2022, through electronic mode only to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company or Registrar & Transfer Agents and Depositories. The requirement of sending physical copies of the aforesaid documents have been dispensed with vide MCA and SEBI Circulars referred above.

The Annual Report 2021-22 of the Company, Inter-alia, containing the Notice of the AGM is available on the website of the Company at [www.prevestdenpro.com](http://www.prevestdenpro.com) and on the websites of the Stock Exchanges viz. [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com). A copy of the same is also available on the website of National Securities Depository Limited (NSDL) at [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com).

In compliance with Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, the Secretarial Standard on General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India and sub-clause 1 & 2 of Regulation 44 of the SEBI LODR Regulations, the Company is providing to its Members the facility of remote e-Voting before as well as during the AGM in respect of the businesses to be transacted at the AGM and for this purpose, the Company has engaged the services of NSDL for facilitating voting through electronic means.

The detailed instructions for remote e-Voting are given in the Notice of the AGM. Members are requested to note the following:

a. The remote e-Voting facility shall be available during the following period:

Commencement of e-Voting	From 9.00 a.m. (IST) on Tuesday, September 13, 2022
End of e-Voting	Up to 5.00 p.m. (IST) on Thursday, September 15, 2022

During this period, Members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on Friday, September 09, 2022 ('Cut-Off Date'), may cast their vote by remote e-Voting.

b. The voting rights of the Members shall be in proportion to their share of the paid-up equity share capital of the Company as on Friday, September 09, 2022 ('Cut-Off Date'). The facility of e-Voting system shall also be made available during the Meeting and the Members attending the Meeting, who have not already cast their vote by remote e-Voting shall be able to exercise their right during the Meeting. A person whose name is recorded in the Register of Members / Register of Beneficial Owners as on the Cut-Off Date only shall be entitled to avail the facility of remote e-Voting before and during the AGM.

c. Any person holding shares in physical form and non-individual shareholders who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after the email/dispatch of the Notice and valid shares as on the Cut-Off Date, may obtain the login-id and password for remote e-Voting by sending a request at [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) or [inquiry@nsdl.co.in](mailto:inquiry@nsdl.co.in) on toll free number 1800 1020 990/1800 224 430, as provided by NSDL. However, if you are already registered with NSDL for remote e-voting, then you can use your existing user ID and password for casting your vote. If you forgot your password, you can reset your password by using 'Forgot User Details/Password' or 'Physical User Reset Password' option available on [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) or call on toll free no. 1800 1020 990 and 1800 224 430. In case of Individual Shareholders holding securities in demat mode who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after sending of the Notice and holding shares as of the cut-off date i.e. Friday, September 09, 2022 may follow steps mentioned in the Notice of the AGM under 'Access-to NSDL e-Voting system'.

A person who is not a Member as on the Cut-Off Date should treat the Notice of the AGM for information purposes only. The Members of the Company holding shares in physical/demat form and who have not registered/ deposited their e-mail addresses with the Company/Registrar & Transfer Agents (the Registrar/ Depository Participants) (the DPs) are requested to send the following documents/information via e-mail to [csprevestdenpro@gmail.com](mailto:csprevestdenpro@gmail.com) in order to register/update their e-mail addresses and to obtain user id & password to cast their vote through remote e-voting at the AGM:

1. Name registered in the records of the Company
2. E-mail id and Mobile number
3. DPID-Client ID, Client Master Copy or Copy of Consolidated Account Statement (For Shares held in demat mode)
4. Scanned copy of the share certificate front and back (For Shares held in physical mode)
5. Self-attested scanned copy PAN and Aadhar

Members may also send their queries relating to e-voting to Ms. Pallavi Mhatre, Manager, NSDL, 4th Floor, 'I', Wing, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013 at: E-mail id: [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in), Toll free No. 1800 1020 990/1800 224 430.

Members facing any technical issue in log in before/during the AGM can contact NSDL helpdesk by sending a request at [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) or call at toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 224 430. The Results declared along with the report of the Scrutinizer shall be placed on the website of the Company [www.prevestdenpro.com](http://www.prevestdenpro.com) and on the website of NSDL: <https://www.evoting.nsdl.com> immediately after the declaration of result by the Chairman or a person authorized by him in writing. The results shall also be uploaded on the websites of stock exchanges [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com).

By Order of Board of Directors  
Prevest Denpro Limited  
Sd/  
Atul Modi  
Managing Director

Date: 19 August, 2022  
Place: Jammu